



ربر معظم کی فوج کے سربراہ اور بعض اعلیٰ کمانڈروں سے ملاقات - 17 / Apr / 2007

ربر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے آج فوج کے سربراہ اور بعض اعلیٰ کمانڈروں سے ملاقات میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد فوج کے تشخص کو دینی اور انقلابی تشخص میں تبدیلی کو ایک بہت بڑی تبدیلی قرار دیتے ہوئے فرمایا: فوج میں اس دینی اور انقلابی تشخص کی حفاظت کرنے، دینداری کے جذبے کو مضبوط بنانے، انقلابی جذبہ، خلاقیت، راسخ عزم، عوامی رابطہ، خود اعتمادی، بڑے کارناموں کو جرات و ہمت کے ساتھ سرانجام دینے کا ولولہ اور جوانوں کی خدا داد صلاحیتوں کو شکوفہ بنانے کے لئے راہیں ہموار کرنے کا سلسلہ قوت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔

29 فروردین جمہوری اسلامی ایران کی فوج کے دن کی مناسبت سے یہ ملاقات ہوئی، ربر معظم اور مسلح افواج کے سربراہ نے اس دن کی مناسبت سے فوج کے تمام افراد اور ان کے اہل خانہ کو مبارک باد پیش کی اور اس دن کو عید کے عنوان سے یاد کرتے ہوئے فرمایا: سابقہ حکومت جس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی اس نے فوج کے تشخص کو غیر دینی اور غیر عوامی بنیاد پر استوار کرنے کی اپنی تمام تر کوشش صرف کی لیکن انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد فوج کے متدین اور انقلابی و عوامی افراد کی ہمت و تعاون سے فوج کا تشخص دینی اور انقلابی تشخص میں تبدیل ہو گیا۔

ربر معظم نے انقلاب کے آغاز میں فوج کے توانا، قوی، شجاع اور باصلاحیت افراد کے تعاون اور فوج کے عوامی و انقلابی افراد کے رشد و ترقی کے لئے جمہوری اسلامی نظام کی طرف سے راہیں ہموار کرنے کو فوج کے تشخص کو بدلنے کے لئے دو اہم عامل قرار دیتے ہوئے فرمایا: فوج میں تشخص کی تبدیلی کی وجہ سے شہید فلاحی، شہید صیاد شیرازی، شہید ستاری، شہید بابائی اور مرحوم ظہیر نژاد جیسے اہم اور عظیم انسانوں کی ترقی و رشد کے مواقع فراہم ہوئے اور ان متدین اور انقلابی افراد نے فوج کے اندر پاک و فہیم انسانوں کے تعاون سے فوج کی پیشرفت، خود کفائی، خلاقیت، نئی صلاحیتوں کے فروغ کے لئے اہم کردار ادا کیا۔

ربر معظم نے فرمایا: ایران کی با ایمان فوج نے سپاہ اور رضا کار فورس کے ہمراہ صدام کی بعثی فوج پر کامیابی حاصل کی جس کی تمام بڑی طاقتیں حمایت کر رہی تھیں اور جو تمام پیشرفتہ ہتھیاروں سے مسلح تھیں۔

ربر معظم انقلاب اسلامی نے استقامت اور پائنداری کے راستے پر گامزن رہنے کو فوج اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کی اہم ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا: ایران کا اسلامی جمہوری نظام دین سے منسلک ہونے کی وجہ سے سیاسی



اور سماجی نظام کی تشکیل میں ایک خلاق نظام ہے۔ جس نے دنیا اور مسلمانوں کے درمیان بالخصوص عالم اسلام کے ممتاز اور روشن خیال افراد کے درمیان اپنی خلاقیت اور عوامی دینی نظام پر استوار ہونے اور سامراجی و تسلط پسند طاقتوں کے خلاف اپنے تشخص کی وجہ سے اپنا اہم مقام حاصل کر لیا ہے جس کی وجہ سے بڑی طاقتیں بھی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔

رہبر معظم نے خدا داد صلاحیتوں کو درخشاں بنانے ، خلاقیتوں کو بارور کرنے کی راہیں ہموار کرنے کو دینی نظام کی اہم ترین خصوصیت قرار دیتے ہوئے فرمایا: اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج آج فوجی وسائل ، تجربہ ، انسانی وسائل میں انقلاب کے آغاز اور دفاع مقدس کے دور کی نسبت کہیں زیادہ قوی اور مضبوط ہے اور اسے اپنی مکمل آمادگی کے ساتھ دینی اقدار کو عملی جامہ پہنانے ، مؤمن اور باصلاحیت افراد کے رشد و ترقی کی راہ ہموار کرنے اور اپنی پیشرفت و ترقی کے سفر پر مسلسل گامزن رہے ۔

رہبر معظم نے فوج کو جدید ترین علوم و ٹیکنالوجی سے آشنا کرنے اور پیشرفتہ وسائل بنانے ، فراہم کرنے اور اپنی توانائی اور استعداد پر اعتماد کرنے پر بھی زور دیا۔

اس ملاقات کے آغاز میں فوج کے سربراہ میجر جنرل صالحی نے تینوں مسلح افواج کی توانائیوں اور ان کی مکمل آمادگی پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی بری ، بحری اور فضائی سرحدوں کی مکمل حفاظت کرنے کے لئے فوج مکمل طور پر آمادہ ہے صالحی نے کہا کہ انقلابی اور اسلامی جذبے ایسے عوامل ہیں جس سے ایران کی مسلح افواج سرشار ہیں اور ملکی دفاع کے لئے ہر وقت آمادہ ہیں۔